

10373 - میت دفن کرنے اور اس کے اہل و عیال کے ساتھ تعزیت کا طریقہ

سوال

میرے والد صاحب اس موسم حج میں فوت ہو گئے ہیں، ہمارے ہاں عادت ہے کہ لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد سب لوگ فاتحہ پڑھنے اور میت کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، مجھے علم ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں، میں نے اس کا انکار کرتے ہوئے اس سے دور رہنے کی بہت کوشش کی ہے، اب میرے کچھ سوالات ہیں:

تعزیت کے وقت کیا کچھ کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟

میت اٹھاتے وقت کیا کہنا چاہیے؟

قبر میں میت رکھتے وقت کیا کہنا چاہیے؟

کیا قبر پر بطور علامت قبر پر نام کا کتبہ لگانا ممکن ہے؟

دفن کرنے کے بعد کونسی دعا کی جاتی ہے؟

فوت شدہ شخص کی قبر پر پانی رکھنے والی بات کہاں تک صحیح ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اول:

جنازہ اٹھانا اور اس کے ساتھ چلنا واجب ہے، اور یہ مسلمانوں پر میت کا حق ہے، ایسا کرنے والے کے لیے شریعت مطہرہ نے اجر و ثواب بھی مقرر کیا ہے، اور فضیلت بھی رکھی ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" جو کوئی جنازہ کے ساتھ اس کے گھر سے شامل ہوتا ہے "

اور ایک روایت میں ہے:

" جو کوئی کسی مسلمان کے جنازہ میں ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے شامل ہوتا ہے اور نماز جنازہ تک اس کے ساتھ رہتا ہے تو اسے ایک قیراط اور جو شخص اسے دفنانے تک اس کے ساتھ رہتا ہے اسے دو قیراط ثواب حاصل ہوتا ہے "

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا: اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قیراط کیا ہے؟
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" دو عظیم اور بڑے پہاڑوں جتنا"

صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز حدیث نمبر (1240) .

اور جنازے کے ساتھ ایسی اشیاء لے کر جانا جائز نہیں جو خلاف شریعت ہوں، ان اشیاء میں مندرجہ ذیل شامل ہیں:
بلند آواز سے آہ بکا کرنا، اور جنازے کے ساتھ خوشبو والی دھونی لے جانا، جنازہ کے آگے آگے بلند آواز سے ذکر کرنا، کیونکہ یہ بدعت ہے، اور اس لیے بھی کہ قیس بن عباد رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے:

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جنازہ کے پاس آواز بلند کرنا نا پسند کرتے تھے"

اور اس لیے بھی کہ ایسا کرنے میں نصاریٰ کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔

دوم: دفن کرنا:

مسلمان شخص کو کافر کے ساتھ اور کافر کو مسلمان کے ساتھ دفن نہیں کیا جائے گا، اور مسلمان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔

سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کو قبر کے پچھلے حصہ سے داخل کیا جائے، اور میت کو اس کی قبر میں دائیں کروٹ پر رکھا جائے، اور میت کا چہرہ قبلہ رخ کیا جائے، اور لحد میں رکھتے وقت مندرجہ ذیل دعا پڑھی جائے:

" بسم اللہ و علی سنتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "

یا پھر

" بسم اللہ و علی ملۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "

اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا ملت پر۔

اسے ترمذی نے کتاب الجنائز حدیث نمبر (967) میں روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح سنن ابو داؤد حدیث نمبر (836) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

اور قبر کے پاس کھڑے لوگوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ لحد بند کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے تین بار مٹی بھر کر قبر پر پھینکیں۔

اور دفن سے فارغ ہونے کے بعد کچھ امور کرنے مسنون ہیں:

قبر نہ تو زمین کے برابر رکھیں اور نہ ہی زیادہ اونچی کریں بلکہ صرف زمین سے ایک بالشت اونچی رکھیں تا کہ قبر کی تمیز ہو اور خیال رکھا جا سکے اور اس کی توہین نہ ہو، اور قبر پر پتھر وغیرہ کی علامت رکھنے میں کوئی حرج نہیں، تا کہ وہاں اس کے عزیز و اقارب کے فوت ہونے کی صورت میں وہیں دفن کیے جاسکیں، اور مٹی اور گردوغبار کو اڑنے سے روکنے کے لیے پانی چھڑکا جا سکے۔

اور میت کو تلقین نہ کی جائے جیسا کہ بعض لوگوں کے ہاں معروف ہے وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر تلقین کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس کی ثابت قدمی اور اس کے لیے دعائے استغفار کرنی چاہیے اور حاضرین کو بھی اس کا حکم دے اس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث ہے:

عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو اس (کی قبر) پر کھڑے ہو کر فرماتے:

"اپنے بھائی کے لیے دعائے استغفار اور اس کی ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے"

سنن ابو داؤد الجنائز حدیث نمبر (2804) علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح سنن ابو داؤد حدیث نمبر (2758)۔

اور قبر کے پاس قرآن مجید میں سے کچھ بھی نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہ بدعت ہے، اور نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ ہی ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایسا کیا، اور اسی طرح قبروں پر تعمیر کرنی اور اسے پختہ کرنا، اور اس پر لکھنا اور کتبہ لگانا بھی حرام ہے، اس کی دلیل جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مندرجہ ذیل فرمان ہے:

"رسول کریم صلی اللہ وسلم نے قبر پختہ کرنے اور اس پر بیٹھنے اور اس پر تعمیر کرنے سے منع فرمایا"

صحیح مسلم شریف الجنائز حدیث نمبر (1610)

اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ:

"رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے اور ان پر لکھنے اور انہیں روندھنے سے منع فرمایا"

سنن ابو داود الجنائز حدیث نمبر (3226) علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح سنن ابو داود حدیث نمبر (2763) .

سوم:

میت کے گھر والوں کے ساتھ تعزیت کرنی مشروع ہے، اور تعزیت اس طرح ہونی چاہیے جس میں اس کا خیال یہ ہو کہ میت کے گھر والوں کی اس میں تسلی اور سکون ہے، اور ان کے غم کو ہلکا کیا جا سکتا ہے، اور انہیں صبر پر ابھاریے، اور ان کے ساتھ اس طرح تعزیت کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اگر تو اسے یاد ہو، وگرنہ پھر جو اس کے آسان ہو اس کے ساتھ تعزیت کرے مثلاً اچھی اور بہتر کلام جو تعزیت کی غرض و غایت کو پورا کرے اور شریعت کے مخالف نہ ہو۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے:

" بلا شبہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے وہ اسی کا تھا اور جو اس نے دیا ہے وہ اسی کا ہے، اور ہر چیز اس کے پاس مقرر وقت کے ساتھ ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ صبر کریں، اور اجر و ثواب کی نیت رکھو"

صحیح بخاری الجنائز حدیث نمبر (1204) .

اور دو معاملوں سے بچنا ضروری ہے:

تعزیت کے لیے اجتماع کرنا، اگرچہ لوگ اس کی عادت بنا لیں۔

میت کے گھر والوں کا تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا۔

سنت تو یہ ہے کہ میت کے اقرباء اور رشتہ دار میت کے اہل و عیال کے لیے کھانا تیار کریں۔

واللہ تعالیٰ اعلم

مزید تفصیل کے لیے علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب احکام الجنائز اور شیخ فوزان کی کتاب الملخص الفقہی (213 - 216) کا مطالعہ ضرور کریں۔

واللہ اعلم .